

51. AL-DZARIYAT (ANGIN KCANG)

Suet ke-51: 30 ayat

Ngen madeak gen Allah da Paling memu-ak
kulo paling Penyayang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Demi (angin) ge temerbangkan debu
ngen sekuat-kuat. وَالْذِرَيْتَ ذَرَوَا ﴿١﴾
2. Ngen bun gi kemandung ujan. فَأَلْحَمَلَتِ وَقَرَأً ﴿٢﴾
3. Ngen kapal-kapal gi elayar ngen mu'eak. فَأَجْرَيْتِ يُسْرًا ﴿٣﴾
4. Ngen (malaikat-malaikat) gi mageak-
mageak urusan. فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرًا ﴿٤﴾
5. Sebeneane jano gi jenanjei ngenko pasti
benea. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾
6. Ngen sebeneane (bilei) pembalasan pasti
tejijei. وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْقَعُ ﴿٦﴾
7. Demi langet gi temuan dalan-dalen وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾
8. Sebenea ko benea-benea lem keadaan
berbeda-beda pendapet. إِنَّكُمْ لِفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفِينَ ﴿٨﴾
9. Be gi palingkan kunci ngen si (rosul ngen
Al-Qur'an) tun gi bi paling. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِلَكَ ﴿٩﴾
10. Tekutukba tun-tun gi deo ngike. قُتِلَ الْحَرَاصُونَ ﴿١٠﴾
11. (Do'oba) gi tun-tun tebenem
lemkebodongan igei lalai. الَّذِينَ هُمْ فِي غَمَرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾
12. Udi temenye "tengenkah pembalasan o?" يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّدِينِ ﴿١٢﴾
13. (Bilei pembalasan o adeba) pada bilei
tengen nasab nak das opoi nerako. يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾

14. (Binadeak ngen udi) “keding azabnu o, dioba azab gi bi o ko minai supayo genacang”. ذُوقُوا فِتْنَكُمْ هَذَا أَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ 
15. Sebeneane tun-tun gi betaqwa ade nak lem taman-taman (surgo) ngen matei bio-matei bio. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ 
16. Samea mak jano gi melei ngen udi kunai Tuhan udi. Sebeneane udi se atio nak dunio adeba tun-tun gimenea baik. أَخْدِنَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ 
17. Udi didik mieu tidua nak wakteu kelmen.
18. Ngen nak akhir-akhir kelmen udi memohan apun (ngen Allah). كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْلَّيْلِ مَا يَهْجِعُونَ 
19. Ngen padoharto-harto udi ade hak untuk tun miskin gi minai ngen tun miskin gi coa dapet kebahagiaan. وَبِالْأَسْخَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 
20. Ngen nak bumei o tedapet tando-tando (kekuasaan Allah) bagei tun-tun gi yakun. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّاءِلِ وَالْمَحْرُومِ 
21. Ngen (jgo) pado direinu dewek. Mako janokah ko coa memperhatikan? وَفِي الْأَرْضِ إِيمَانٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 
22. Ngen nak lenget tedapet (sebab-sebab) rezkinu ngen tedapet (pulo) jani gi jenajeikan padonu. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ 
23. Mako demi Tuhan lenget ngen bumei, sesungguhne gi jenanjeikan adeba beneabene (akan tejijeji) awei penede'a akan gi ko nadiak. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقٌ كُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 
24. Sudokah sapei padonu (Muhammad) cerito temeu Ibrahim (malaikat-malaikat) gi nak mulyakan? فَوَرَبِّ الْسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ 
25. (Ngat ba) ketiko udi masuk ke plabeine lalu mengadeakan “salaman” Ibrahim jenawab “salamun” (ko) adeba tun-tun gi هَلْ أَتَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا قَوْمٌ 

coa nak kenal.

مُنْكَرُونَ

26. Mako si aleu ngen diem-diem menemeu kluargone, sudo o ne minne daging anak sapei gemuk (gi seniem)
27. Sudo o nidang ne ngen udi, Ibrahim made cak silakan ko emu'e"
28. Tapi udi coa lak emu'e, kerno o Ibrahim meraso saben teadep udi. Udi maeak: "jibeak ko saben, ngen udi milie kabar gi riang ngen si ngen (leherne) do anak di alim (Ishak).
29. Sudo o perpuan ne tekomekik (tebengong) sodo o tempak papadewek, si madeak: "(uku adeba) selawie tuei gi manoa".
30. Udi madeak "awei oba Tuhanu memfirmankan "sebeneane si ba gi maha bijaksana igei maha namen".

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ

فَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخْفُ وَدَشِّرُوهُ

بِغْلَمٍ عَلَيْمٍ

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا

وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ

الْعَلِيمُ